



سوال

کیا جمعہ کی دوسری جماعت ہو سکتی ہے؟

جواب

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جو شخص بیماری یا کسی شرعی عذر کی بنا پر جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکا وہ ظہر کی چار رکعات پڑھے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جمعہ کے روز عرفہ میں ٹھہرے تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو ظہر کی نماز پڑھائی، جمعہ نہیں پڑھایا۔

1. اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہوتا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اس پر لازمی ہے کہ وہ اپنے اس گناہ پر نادم ہو اور رب کے حضور سچی توبہ کرے۔
ایسا شخص بھی بعد میں ظہر کی ہی چار رکعات ادا کرے گا، جمعہ کی دو رکعتیں نہیں پڑھے گا۔

سیدنا عبد اللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ اپنے منبر کی لکڑیوں پر (کھڑے ہوئے) فرما رہے تھے:

لَيْتُنِينَ اَقْوَامَ عَن وَّذَعِيمِ اِنْمَعَاتِ اَوْ لِنَحْمِنَ اللّٰهَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ النَّافِلِيْنَ (صحیح مسلم، الجمعة: 865)

لوگوں کے گروہ ہر صورت جمعہ چھوڑ دینے سے باز آجائیں یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔

واللہ اعلم بالصواب

محدث فتویٰ کمیٹی

فضیلۃ الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی